

U MICROFINANCE BANK LIMITED

جدول اخراجات - برانچ بینکاری

01-07-2023 تا 31-12-2023

1- فنانسنگ پراؤکٹس

برائے کرم فنانسنگ پراؤکٹس کے پرافٹ ریٹس برانچ میں اور بینک کی ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیں

فنانسنگ پروسیڈنگ فیس اور چیریٹی

فنانسنگ کی رقم کا 3.5 فیصد + FED	آسان کاشتکار - سلم فنانسنگ
فنانسنگ کی رقم کا 3.5 فیصد یا FED + 30,000 جو بھی کم ہو	آسان کاشتکار - پرنیم سلم فنانسنگ
فنانسنگ کی رقم کا 3.5 فیصد + FED	اپنا کاروبار - مراحتہ فنانسنگ
فنانسنگ کی رقم کا 3.5 فیصد یا FED + 30,000 جو بھی کم ہو	اپنا کاروبار - پرنیم مراحتہ فنانسنگ
100 روپے	دیر سے ادائیگی کرنے پر مراحتہ فنانسنگ کی پراؤکٹس کی چیریٹی
فنانسنگ کی رقم کا 3.5 فیصد یا FED + 30,000 جو بھی کم ہو	نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم - مکان آسان ڈمنٹنگ مشارکہ فنانسنگ
فنانسنگ کی رقم کا 3.5 فیصد یا FED + 30,000 جو بھی کم ہو	کامیاب پاکستان پروگرام - (KPP) مکان آسان ڈمنٹنگ مشارکہ فنانسنگ
فنانسنگ کی رقم کا 3.5 فیصد یا FED + 30,000 جو بھی کم ہو	مکان آسان - ڈمنٹنگ مشارکہ فنانسنگ
فنانسنگ کی رقم کا 3.5 فیصد یا FED + 30,000 جو بھی کم ہو	یوبنک کمرشل ویکل - ڈمنٹنگ مشارکہ فنانسنگ
فنانسنگ کی رقم کا 3.5 فیصد یا FED + 30,000 جو بھی کم ہو	یوبنک ٹریکٹر - ڈمنٹنگ مشارکہ فنانسنگ
500 روپے	دیر سے ادائیگی کرنے پر ڈمنٹنگ مشارکہ فنانسنگ کی پراؤکٹس کی چیریٹی
پہلا سال: کل جزوی رقم کا 5 فیصد	قبل از وقت جزوی مشارکہ یونٹوں کی خریداری پر منافع وصول کیا جائے گا
دوسرا سال: کل جزوی رقم کا 4 فیصد	
تیسرا سال اور اسکے بعد: کل جزوی رقم کا 3 فیصد	

پراسیڈنگ فیس نئی اور دوبارہ فنانسنگ کیلئے لاگو ہوں گی۔

ہر فنانسنگ ایپلی کیشن فارم پر 1000 روپیہ پروسیڈنگ چارجز فیس لاگو ہوگی۔

2- ریمیننس

آن لائن ٹرانزیکشن

مفت	انٹر برانچ کیش ڈپازٹ
مفت	انٹر برانچ کیش وڈرل
مفت	انٹر برانچ اکاؤنٹ سے اکاؤنٹ فنڈ ٹرانسفر
220 روپے بمعہ FED (9 بجے صبح تا 12 بجے رات)	RTGS چارجز اور اوقات کار
330 روپے بمعہ FED (2 بجے دوپہر تا 3:30 FED) (رات 12 بجے تا 2 بجے صبح)	
550 روپے بمعہ FED (بجے دوپہر)	
30 روپے بمعہ FED (9 بجے صبح تا 3:30 بجے دوپہر)	RTGS چارجز (سو موثر تا جمعہ)
100,000 روپے سے 999,999 تک	RTGS چارجز (سو موثر تا جمعہ)

پینٹ آؤٹ (اکاؤنٹ ہولڈر کے لئے)

300 روپے + FED فی عدد

پینٹ کا اجراء

دوبارہ پیمنٹ کا اجراء	300 روپے + FED فی عدد
پیمنٹ کی منسوخی	300 روپے + FED فی عدد
پیمنٹ آؤر (واک ان کسٹر کے لیے)	
پیمنٹ کا اجراء	400 روپے + FED فی عدد
دوبارہ پیمنٹ کا اجراء	400 روپے + FED فی عدد
پیمنٹ کی منسوخی	400 روپے + FED فی عدد
(CDR) کال ڈیپازٹ رسید	
کال ڈیپازٹ کا اجراء	مفت
کال ڈیپازٹ رسید کی تینخ اور دوبارہ تصدیق	150 روپے فی عدد + FED

3- کلیرنگ اور وصولی	
لوکل کلیرنگ چارجز	مفت
فنڈ ٹرانزیکشن ہونے کی وجہ سے اپنی طرف سے کلیرنگ کے چارجز	300 روپے + FED
انٹرسٹی کلیرنگ چارجز	200 روپے + FED
انٹرسٹی ریٹرن چارجز	200 روپے + FED
سیم ڈے کلیرنگ چارجز	300 روپے + FED
سیم ڈے ریٹرن کلیرنگ چارجز	300 روپے + FED
OBC	
جمع کرانے کے لیے بیرونی بل (ریلنڈیشن)	250 روپے + FED + DD چارجز پیش کردہ پراجے کے لیے
OBC چیک کے دوبارہ چارجز	200 روپے + FED فی عدد

4- لاکرز	
سیوریٹی ڈپازٹ، کی ڈپازٹ اور کی لاکرز کی فیس پیشگی وصول کی جائے گی۔	
سالانہ کرایہ	کم سے کم
زیادہ سے زیادہ	درمیانہ
2500 روپے + FED	4000 روپے + FED
6000 روپے + FED	
سیوریٹی ڈپازٹ	جو بھی سائز ہو گا اسکے ایک سال کے کرایہ کے برابر
کی ڈپازٹ	1500 روپے تمام سائز کیلئے
توڑنے کے چارجز	4000 روپے + FED (فلیٹ) فی لاکر + اصل
دیر سے ادائیگی کرنے پر چیرٹی	100 روپے لیٹ ہونے کے ایک ماہ کے بعد
نوٹ: لاکرز کی بازیابی کے بعد سیوریٹی ڈپازٹ اور کی ڈپازٹ کی رقم واپس کر دی جائے گی مزید یہ کہ یو بی اے سٹاف سیوریٹی اور کی ڈپازٹ فیس سے مستثنیٰ ہیں۔	

5- متفرق چارجز	
چیک بک چارجز	21 روپے فی چیک
6 ماہ تک بینک ڈبلیٹ اسٹیٹمنٹ	35 روپے + FED
اکاؤنٹ بیلنس سرٹیفیکٹ کا اجراء	250 روپے + FED
اسٹاپ پیمنٹ (یعنی رقم کی ادائیگی رکوا دینے کے چارجز)	250 روپے فی اسٹاپ اور 500 روپے سریر کیلئے + FED
مستقل ہدایات	100 روپے + FED (فی اسٹاپ) + کوریئر چارجز

ہولڈ میل	FED+ 250 روپے
اداشدہ چیک کی نوٹوکاپی	FED+ 200 روپے
کسٹمر کی ہدایات کے مطابق کوریئر اور میلنگ چارجز	FED+ 200 روپے
اکاؤنٹ بند کرانے کے چارجز (ریگولر سیونگ اس سے مستثنیٰ ہوں گے)	200 روپے یا دستیاب بیلنس جو بھی کم ہو
دستاویزات کی بازیافتگی	200 روپے فی دستاویز جو کہ 6 ماہ سے پرانا ہو
ادارہ جاتی تنخواہ کی تقسیم	جیسا کہ کمپنی کے ساتھ معاہدہ طے پایا
قانونی رائے اور تخمینہ کار کے چارجز	
مکان آسان ڈسٹنٹک مشار کہ لئے قانونی رائے اور تصدیقی کاغذات	120,000 روپے یا تخمینہ کار کو براہ راست ادائیگی
ڈسٹنٹک مشار کہ پراڈکٹس کے دستاویزات کے چارجز	اصل خرچہ
ڈسٹنٹک مشار کہ فنانسنگ کے ویلیوشن کے چارجز	5000 روپے تک یا پینٹل تخمینہ کار کو براہ راست ادائیگی
اثاثہ واپس لینے (ری پزیشن) کے چارجز	اصل خرچہ
6- ڈیٹ کارڈ	
ڈپازٹ کسٹمر کے لیے	
پے پاک اور یونین پے کا اجراء	700 روپے فی کارڈ + FED
ڈیٹ کارڈ (UPI اور پے پاک) سالانہ (دوبارہ سالانہ فیس)	500 روپے فی کارڈ + FED
ڈیٹ کارڈ (UPI اور پے پاک) کی تبدیلی	300 روپے فی کارڈ + FED
ماسٹر کارڈ ڈیٹ کارڈ کا اجراء اور دوبارہ لوڈ کرانے کی سالانہ فیس	100 روپے کلاسک کے لئے اور 1200 روپے گولڈ کے لئے
ماسٹر کارڈ ڈیٹ کارڈ کی تبدیلی	500 روپے کلاسک کے لئے اور 600 روپے گولڈ کے لئے
رقم نکوانا (MNET اور 1 لنک سے)	23.44 روپے
یونین کے اے ٹی ایم سے رقم نکوانا	مفت
بیلنس انکوئری (صرف ایم این ای ٹی نیٹ ورک کیلئے)	23.44 روپے
بیلنس انکوئری (یونین کے اے ٹی ایم سے)	مفت
فنانسنگ کسٹمر کے لئے	
پے پاک اور چائنہ یونین پے ڈیٹ کارڈ کا اجراء اور سالانہ فیس	700 روپے + FED
ڈیٹ کارڈ (یو پی آئی اور پے پاک) سالانہ اور دوبارہ سالانہ فیس	500 روپے + FED
ڈیٹ کارڈ یو پی آئی اور پے پاک کی تبدیلی	300 روپے + FED
IBFT چارجز	
(آئی بی ایف ٹی) سے یونین کے اے ٹی ایم اور انٹرنیٹ اور موبائل بینکنگ (برانچ بینکنگ اکاؤنٹس)	ماہانہ رقم کی حد
	چارجز (روپے)
	0
	جو بھی کم ہو فی ٹرانزیکشن + FED 0.1 فیصد ٹرانزیکشن کے رقم یا 200 روپے
	25,000 تک مہینہ
	25,000 تک مہینہ سے اوپر

A-نوٹ
FED-1 اور صوبائی سیز ٹیکس وفاقی اور صوبائی حکومتیں چارجز کے علاوہ وقتاً فوقتاً لاگو ہونے
2- سرکاری، نیم سرکاری، طالب علموں اور بیواؤں کی پنشن کیلئے اور یونین کے عمل کے لئے بنائے گئے اکاؤنٹ باقاعدہ بینک چارجز سے مستثنیٰ ہوں گے
3- محفوظ فنانسنگ کے حوالے سے قانونی دستاویزات کے چارجز اصل میں صارفین سے وصول کیئے جائیں گے۔
4- ود ہولڈنگ ٹیکس موجودہ شرح جات کے تابع ہے جو وقتاً فوقتاً تبدیل ہو سکتی ہے۔

5- بنک کی انتظامیہ کسی بھی یا تمام چار جز کو معاف کر سکتی ہے۔
6- کو لیٹرل آکشن چار جز درخواست دہندہ کی طرف سے براہ راست بنک کے بینل کے منظور شدہ تخمینہ کار کو ادا کیئے جائیں گے جو ویلیو ٹر کے ساتھ بنک کے معاہدہ کے مطابق ہوں گے۔
7- بقایا رقم کو اصل میں کسٹمر کے اکاؤنٹ میں منتقل کرنے سے پہلے کو لیٹرل ویلیوشن چار جز کو کو لیٹرل کی سیلز سے کاٹ لیا جائے گا۔
8- کوئی بھی چار جز جو اس شیڈول کے تحت شامل نہیں ہیں کسٹمر کے ساتھ معاہدہ کے مطابق کیس ٹو کیس الگ سے وصول کیے جائیں گے۔